

(۴۷) دُرُودِ الْعَابِدِينَ

یہ درود مشہور بزرگ حضرت معروف کرنی کا وظیفہ خاص ہے۔ آپ نے یہ درود بہت کثرت سے پڑھا بلکہ آپ اٹھنے بیٹھنے ہر وقت درود عابدین پڑھتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے درود شریف کے بے شمار اسرار دیکھے اس لیے وہ اپنے مریدین کو یہ درود شریف پڑھنے کی اکثر تلقین فرماتے اس درود کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص یہ درود کثرت سے پڑھا ہو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں خاص حاجت رکھ کر اسے اکتالیس روز تک روزانہ مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور حسب منشاء اس کا کام ہو جائے گا اگر کوئی شخص صاحب کثف بنا چاہے تو اسے چاہیے کہ تجدید کی نماز کے بعد اس درود شریف کو کثرت سے پڑھے انشاء اللہ اس پر کمالات کثف کھل جائیں گے۔ اور روحانی درجات میں بلندی ہوگی مسجد میں بیٹھ کر اسے امرتہ روزانہ پڑھنے سے دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے گا ہر قسم کے امتحان میں کامیابی یا کسی اور مقصد میں کامیابی کے لیے اس درود شریف کو ہر نماز کے بعد ۲۱ مرتبہ چالیس دن تک پڑھا جائے انشاء اللہ جیسا بھی امتحان یا مقصد ہوگا اس میں کامیابی ہوگی۔ درود العابدین یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَلَأَ

اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنی رحمت نازل کر کہ دنیا

الدُّنْيَا وَمَلَأَ الْآخِرَةَ وَارْحَمِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

اور آخرت بھر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو اتنی

مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ وَاجْزِ مُحَمَّدًا

جسزادے کہ اس سے دنیا اور آخرت بھر جائے اور محمد صلی اللہ

وَالْمُحَمَّدِ مَلَأَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ وَ

علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنی

سَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلَّةً

سلامتی عطا کر کے دونوں جہاں

الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ○

جہاں جہاں

حکایت | ابو زرعہ کو بعد موت جعفر بن عبد اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا تب سے میں نے پوچھا "اے ابو زرعہ یہ درجہ تو نے کیسے حاصل کر لیا۔

جواب دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ اور یوں لکھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ درود پاک لکھا ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے" (شرح الصدور)